

کووڈ-19 کے ٹیکے کی آپ کی اپائنٹمنٹ کے لیے تیاری کرنا



کلینک پر آنے سے پہلے کھانا
کھائیں اور پانی پیئیں اور پانی
لے کر آئیں



ڈھیلا ڈھالا ٹاپ یا ٹی شرٹ
پہنیں



اگر آپ میں کووڈ-19 کی کوئی علامات
ہیں تو اپنی اپائنٹمنٹ دوبارہ بک کریں



اگر اس سے پہلے آپ بیہوش ہوئے ہیں
یا مضطرب محسوس کر رہے ہیں تو
کلینک کے عملہ کو بتائیں



کلینک پر، اگر آپ کو مدد درکار ہو
یا علیٰ محسوس کر رہے ہوں تو
عملہ کو بتائیں